

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن  
جامعہ ملیہ اسلامیہ  
25 اگست 2020  
پریس ریلیز

## جامعہ نے لاک ڈاؤن کے درمیان آن لائن موڈ کے ذریعہ 77 پی ایچ ڈی اور 6 ایم فل و ایو کروائے

جامعہ ملیہ اسلامیہ بڑے پیمانے پر انفارمیشن ٹکنالوجی (آئی ٹی) کو ورچوئل  
ایم پی فل / پی ایچ ڈی و ایو اور پی ایچ ڈی پری سبمیشن کے لئے استعمال  
کر رہی ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ ملک کے ان اداروں میں سے ایک ہے جس نے  
ایم فل / پی ایچ ڈی و ایو آن لائن شروع کی ہے۔

جب سے کووڈ-19 وبائی مرض کے سبب آن لائن کلاسیں بند ہوئیں ہیں اس  
وقت سے یونیورسٹی نے اب تک 76 پی ایچ ڈی و ایو، 5 پی ایچ ڈی پری  
سبمیشنس ، 1 ایم فل / پی ایچ ڈی و ایو، 6 ایم فل و ایو اور 2 ایم ٹیک و ایو کا  
انعقاد کرا چکی ہے۔ و ایو گوگل میٹ کے ذریعے لیا جا رہا ہے اور آئندہ کسی  
بھی حوالہ کے لئے تمام و ایو کے ریکارڈنگ محفوظ کیے جاتے ہیں۔

آن لائن و ایو 11 جون ، 2020 سے شروع ہوا، جس میں جامعہ ملیہ اسلامیہ  
کا سنٹر فار انفارمیشن ٹکنالوجی (سی آئی ٹی) ان سرگرمیوں کو بہتر انداز میں  
برتنے میں تعاون فراہم کر رہا ہے۔ سی آئی ٹی نے اس درمیان درجنوں ویبینار  
اور تربیتی پروگرام ، سی اے ایس کے تحت سلیکشن کمیٹیوں ، فنانس کمیٹی  
میٹنگ ، ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس اور یونیورسٹی کے دیگر اہم سرکاری  
اجلاسوں کے انعقاد میں بھی مدد فراہم کی ہے۔

آن لائن درس و تدریس اور دیگر سرگرمیاں وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ  
پروفیسر نجمہ اختر کی ایما پر شروع ہوئی جنہوں نے آئی ٹی ٹولز کے  
استعمال پر زور دیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ کووڈ 19 وبائی  
مرض کی وجہ سے درس و تدریس اور دیگر متعلقہ سرگرمیاں ماند نہ پڑے۔

احمد عظیم  
پی ار او - میڈیا کوآرڈینیٹر